

24 جولائی 2018

15 مقامی طالبعلم سمر کمپنیاں کھول رہے ہیں

برامپٹن، آن – مقامی طالبعلموں کا ایک گروپ اپنی محنت اور برامپٹن انٹرپرائز سنٹر اور سمر کمپنی پروگرام کی مدد کے ذریعے اس موسم گرما کے دوران کاروباری کمپنیاں قائم کر کے اپنی قسمت آزمائے گا۔

برامپٹن انٹرپرائز سنٹر کا سمر کمپنی پروگرام 15 طالبعلموں کے کاروباری تصورات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ سمر کمپنی 15 سے 29 سال کی عمر کے درمیان کے طالبعلموں کے لیے اونٹاریو حکومت کا ایک پروگرام ہے، جو انہیں ان کے اپنے سمر بزنس کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پروگرام براہ راست تربیت، رہنمائی اور \$3000 تک کی معاشی گرانٹس فراہم کرتا ہے۔

نوجوانوں کی ملازمتوں اور نوجوانوں کی انٹرپرائز شپ کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں معاونت کرنا شہر کے [اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان](#) میں وضع کردہ اقدامات کا حصہ ہے۔ یہ منصوبہ شہر کے لیے اگلے 20 سال کے دوران نوکریاں، ٹیلنٹس اور سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے ایک عملی خاکہ ہے۔ نوجوانوں کو کاروبار میں عملی تجربہ حاصل کرنے میں مدد دینے کا مستقبل کی معاشی بڑھوتری کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔

اس سال کے پروگرام کے لیے طالبعلموں کے کاروباروں میں فوٹوگرافی، کپڑوں کے ڈیزائن اور پرجون فروشی، فون پر مبنی کاروبار اور گرافک ڈیزائن شامل ہیں۔ سمر کمپنی پروگرام کی رہنمائی اور تربیتی نشستوں کے ساتھ ساتھ، انٹرپرائز بننے والے طالبعلم اپنے وقت کو کلینٹ کی ضروریات کو پورا کرنے اور کاروبار کے لیے کچھ ابتدائی آمدنی پیدا کرنے میں تقسیم کر رہے ہیں۔

[اس سال کے شرکاء](#) کو برامپٹن اور کیلٹون سے تعلق رکھنے والے 120 سے زائد درخواست دہندگان میں سے چنا گیا ہے۔ سمر کمپنی پروگرام کے بارے میں معلومات اور موسم سرما 2019 کے پروگرام میں درخواست دینے کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کے لیے www.ontario.ca/summercompany ملاحظہ کریں۔

برامپٹن انٹرپرائز سنٹر کاروبار میں معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرائز کو مربوط کرنے کے لیے پورے سال کے دوران تقریبات کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ یہ انفرادی مشاورتوں اور مشورے کی بھی پیشکش کرتا ہے اور نیا کاروبار شروع کرنے والوں اور پہلے سے قائم شدہ کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے فنڈنگ اور پروگراموں تک رسائی کا مقام ہے۔

اقتباسات

"ہمیں اس لگن، عزم اور پیشہ ورانہ رویے سے محبت ہے، جو یہ نوجوان لوگ اپنے کاروباروں میں لا رہے ہیں۔ جدت اور نوجوانوں کی انٹرپرائز شپ اہم ہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع اور معاونت دے کر مدد دینا چاہتے ہیں، جن کا وہ کامیاب ہونے کے لیے حق رکھتے ہیں اور یہ پروگرام اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔"

- *برامپٹن میئر لنڈا جیفری*

"ہم موسم سرما کے دوران سمر کمپنی کے طالبعلموں کو بے حد دلچسپی سے دیکھتے رہیں گے۔ ان نوجوان انٹرپرائز میں ایسے کاروباری رہنماؤں کی اگلی نسل موجود ہے، جو برامپٹن میں معاشی بڑھوتری، نوکریوں اور سرمایہ کاری کو آگے بڑھائیں گے۔"

- *کونسلر جیف بومین، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ*

"برامپٹن انٹرپرائز سنٹر اس حوالے سے ایک اہم جزو ہے کہ سٹی برامپٹن میں موجود کاروباری کمیونٹی کو کیسے خدمات اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہماری توجہ نوکریاں اور سرمایہ کاری لانے پر مرکوز ہے اور سمر کمپنی جیسے پروگرام، جو برامپٹن انٹرپرائز سنٹر کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، بڑھوتری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں۔"

- *باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن*

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔